

49016 - اللہ تعالیٰ کے لیے عبودیت کی حقیقت

سوال

میں نے سوال نمبر (11804) کے جواب میں پڑھا ہے کہ: انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو کیا آپ عبادت کی حقیقت کی وضاحت فرمائیں گے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

عبادت کی لغوی تعریف:

لغت میں عبادت عاجزی و انکساری اور تابعداری کو کہتے ہیں، عرب کا قول ہے: هذا الطريق معبد" یعنی زیادہ چلنے اور پاؤں سے زیادہ روندھا ہوا.

لیکن شرعی اصطلاح میں عبادت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے:

اول:

بندے کا فعل جیسے کوئی شخص نماز ادا کرے یا زکاة ادا کرے تو اس کا یہ فعل عبادت کہلائے گا، علماء کرام نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے:

اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہوئے اور اس کا خوف اور اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کوئی فعل کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے یا اس کا حکم مانا جائے اور اس کے منع کردہ کام سے رکا جائے.

دوم:

جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ کام عبادت ہے اگرچہ اسے کوئی بھی ادا نہ کرتا ہو جیسے کہ نماز اور زکاة ذاتی طور پر ایک عبادت ہیں، علماء کرام نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے:

عبادت ایسا جامع اسم ہے جو ہر چیز جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور اس پر راضی ہو چاہے وہ اقوال ہوں یا افعال ظاہری ہوں یا باطنی.

ان مامورات کو عبادت کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ مکلف اشخاص ان افعال کو عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے پروردگار کے لیے ادا کرتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت اس کی کمال محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مکمل عاجزی و انکساری کا ہونا ضروری ہے ۔

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن و انس کی پیدائش کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا :

اور میں نے تو جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے الذاریات (56)۔

لہذا ہم اس غرض و غایت اور اس هدف تک کیسے پہنچیں گے؟

بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت اس سے آگے نہیں کہ صرف کچھ اسلامی شعائر کے مجموعہ پر عمل پیرا ہو جائیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے مثلاً نماز، روزہ، حج اور زکاۃ وغیرہ اس کے اوقات میں ادا کر دیا جائے تو اسی کو عبادت کہتے ہیں، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں جس طرح ان لوگوں نے خیال کر رکھا ہے۔

لہذا ان اسلامی شعائر اور عبادات کے کاموں میں دن اور رات کا کتنا حصہ صرف ہوتا ہے؟ بلکہ انسان کی عمر کا کتنا حصہ صرف ہوتا ہے؟

اور پھر اس طرح باقی عمر کہاں؟ اور بقیہ طاقت کہاں؟ اور باقی وقت کہاں صرف ہوا؟ یہ سب کچھ کہاں صرف ہوتا اور کہاں جاتا ہے؟

کیا عبادت میں صرف ہوتا ہے یا پھر کسی اور چیز میں؟ اگر تو عبادت کے علاوہ کہیں اور صرف ہوتا ہے تو پھر انسانی وجود کی غرض و غایت کس طرح ثابت ہو سکتی ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ یہ مکمل اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے؟

اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کس طرح ثابت ہو گا؟

کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے الانعام (162)۔

بلاشبہ عبودیت ایک ایسا قضیہ اور معاملہ ہے جو مسلمان کی مکمل زندگی کو شامل ہے، لہذا جب وہ رزق کی تلاش میں روئے زمین میں گھومتا پھرتا ہے تو یہ رزق کی تلاش اور اس کا گھومنا بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس کا حکم مندرجہ ذیل فرمان میں دیا ہے:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں جی کر دوبارہ اٹھنا ہے الملك (15) .

اور جب مسلمان شخص نیند کرتا اور سوتا ہے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی طاقت بحال کر سکے جیسا کہ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه کا کہنا ہے:

" میں اپنی نیند میں بھی اسی طرح اجر و ثواب کے حصول کی نیت کرتا ہوں جس طرح اپنے بیدار ہونے میں اجر و ثواب کی نیت رکھتا ہوں " صحیح بخاری حدیث نمبر (4342) .

یعنی جس طرح قیام اللیل میں اجر و ثواب کی نیت کرتے اسی طرح نیند میں بھی اجر و ثواب کے حصول کی نیت کرتے تھے، بلکہ مسلمان شخص تو اس کے علاوہ کسی بات پر راضی ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کے نکاح اور کھانے پینے اور نفع حاصل کرنا یہ سب کچھ اس کی حسنات اور نیکیوں میں شامل ہوں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نے بھی فرمایا:

" اور تمہارے ہر ایک کے ٹکڑے میں صدقہ ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب کوئی ہم میں سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے اجر بھی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اسے حرام کام میں استعمال کرے تو کیا اسے گناہ ہو گا؟

تو صحابہ کرام نے عرض کیا: جی ہاں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تو اسی طرح اگر وہ حلال کام میں استعمال کرے تو اسے اجر و ثواب ملے گا " صحیح مسلم حدیث نمبر (1006) .

اور اس عظیم مرتبہ تک پہنچنے کی راہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب اور پروردگار کو ہر حال میں اپنے سامنے رکھے اور زندگی میں وہ جو کام بھی سر انجام دے رہا ہو تو اسے یہ سمجھنا اور اسے یقین ہونا چاہئے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے آیا وہ یہ کام پسند بھی کرتا ہے اور اس سے راضی ہو گا یا ناراض؟ لہذا اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے اور اسے پسند ہے تو مسلمان کو اس کام پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تعریف کرنی چاہیے اور خیر و بہلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور زیادہ کام کرے۔

اور اگر وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی والا نہیں تو پھر اسے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے جیسا کہ متقی اور پرہیز گاروں کا شیوہ اور طریقہ ہے جن کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور وہ لوگ جب کوئی برائی اور فحش کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں یا پھر اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر وہ اصرار نہیں کرتے اور انہیں علم ہوتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی جانب سے مغفرت اور بخشش اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا یہ بہت ہی اچھا بدلہ اور اجر و ثواب ہے آل عمران (135 - 136) .

ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد میں آنے والوں کی حس میں عبادت اسی طرح تھی انہوں نے کبھی بھی تعبدی شعائر کے دائرے میں اس عبادت کو محصور کر کے نہیں رکھا تھا کہ ان لحظات جن میں وہ ان دینی پر شعائر کو سرانجام دیتے صرف انہیں ہی عبادت گردانیں اور یہی لحظات عبادت کے ہوں، اور ان کی زندگی کے باقی اوقات عبادت سے خارج ہوں، ایسا نہیں تھا بلکہ ان میں سے ہر ایک کی مکمل زندگی عبادت تھی، یہ دینی شعائر تو ایسے خاص لحظات ہیں کہ ان کی ادائیگی کے لحظات و اوقات میں انسان کی ایمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جو اس سے باقی مطلوبہ عبادات کی ادائیگی میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

اور اسی لیے وہ اس کا خاص اہتمام کرتے اور خیال رکھتے تھے جس طرح ایک مسافر اپنے زاد راہ کا خیال کرتا ہے جو اس کے سفر میں ممد و معان ثابت ہو اور اس لحظے کا خاص کر خیال کرتا ہے جس میں اسے یہ زاد راہ ملنا ہو۔

وہ حقیقتاً ایسے ہی تھے جس طرح ان کے رب نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

وہ اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں آل عمران (191) .

یعنی وہ اپنی ہر حالت میں اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتے تھے اور اس کے ساتھ دل کو بھی جمع کرتے اور ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا ڈر اور خوف ہر وقت ان کے دل میں حاضر اور موجود رہتا جب بھی کوئی عمل کرتے وہ اس خوف اور ڈر کو اپنے دل میں رکھتے، یا پھر کوئی بات بھی کرتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل میں ہوتی اور خوف چھایا رہتا تھا، لہذا ان میں سے جب کوئی غافل ہو جاتا یا غلطی کر بیٹھتا تو ان کا حال بالکل ایسا ہی ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا سورۃ آل عمران کی آیات میں بیان فرمایا ہے .

اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق سے نوازے آپ یہ علم میں رکھیں کہ ہر انسان اپنی فطرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، یعنی وہ فطرتی طور پر عبادت کے لیے ہی پیدا ہوا ہے یا تو وہ بغیر کسی شریک کے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور شریک کرنے والا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا دونوں ہی برابر ہیں! اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو "شیطان کی عبادت" کا نام دیا ہے، کیونکہ اس نے شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس کی بات پر لبیک کہا ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا بلا شبہ وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے، اور تم صرف میری ہی عبادت کرو یہی سیدھا راہ ہے یس (60)۔

اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور شیطان کی عبادت کرنے والے شخص کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی:

فرمان باری تعالیٰ ہے:

اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے چہرے کے بل اوندھا ہو کر چلے یا وہ جو سیدھا (پاؤں کے بل) راہ راست پر چل رہا ہو الملك (22)۔

اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

کہہ دیجئے کیا نابینا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے ؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ الرعد (16)۔

اور شیطان تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے بہت سے حیلے اور کوششیں کرتا ہے اور اس میں بتدریج اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات تو اسے عبادت سے وقتی طور پر دور کرتا ہے جیسا کہ کوئی شخص معصیت اور گناہ کا مرتکب ہو تا ہے، اسی کے بارہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا... " صحیح بخاری حدیث نمبر (2475) صحیح مسلم حدیث نمبر (57) ۔

اور بعض اوقات شیطان اسے مکمل طور پر عبادت سے دور کردیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین جو تعلق ہوتا ہے اسے ختم کر کے رکھ دیتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرك یا پھر کفر اور الحاد کا ارتکاب کرنا شروع کردیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر رکھے۔

اور شیطان کی یہ عبادت بعض اوقات تو خواہشات کی پیروی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ اور معبود بنائے ہوئے ہے، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ الفرقان (43)۔

لہذا یہ شخص جو اپنی خواہش کے حکم کو مانتا اور اس پر عمل کرتا ہے جسے وہ اچھا اور بہتر دیکھتا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاتا اور جسے اپنی رائے میں قبیح اور غلط خیال کرے اس ترک کردیتا ہے، لہذا وہ اپنے نفس کی

خواہشات کے پیچھے چلتا اور اس کا مطیع بن چکا ہے، وہ اسی چیز کی پیروی کرتا ہے جس کا حکم اس کا نفس دے گویا کہ وہ اس کی اس طرح عبادت کرتا ہے جس طرح ایک شخص اپنے الہ اور معبود کی عبادت کرے۔

اور بعض اوقات روپے پیسے اور درہم و دینار کی عبادت ہوتی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" دینار اور درہم اور قمیص و لباس کا بندہ تباہ و برباد ہو جائے اگر تو اسے کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش اور راضی ہوتا ہے اور اگر اسے کچھ نہ ملے تو ناراض ہوتا ہے، تباہ برباد اور ہلاک ہو، اور جب اسے کانٹا چبھے تو اس کا کانٹا بھی نہ نکالا جائے...." الحدیث . صحیح بخاری حدیث نمبر (2887) .

اور اسی طرح ہر وہ شخص جس کا دل اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری اشیاء اور نفس کی خواہشات سے معلق ہو چکا ہو اور ان سے محبت کرنے لگے اگر وہ خواہشات اسے حاصل ہو جائیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے اور اگر ان کا حصول نہ ہو تو ناراض ہوتا ہے، لہذا ایسا شخص خواہشات کا بندہ اور غلام بن چکا ہے، کیونکہ حقیقی غلامی اور بندگی تو دل کی غلامی اور اس کی عبودیت ہے .

پھر جس قدر ان خواہشات کے پیچھے چلے اور ان کی عبادت کرے گا یا بعض خواہشات کو مانے گا اس قدر ہی اس کی اللہ تعالیٰ کے لیے عبودیت اور بندگی بھی کمزور ہو گی، اور اگر اس کی ان خواہشات اور شہوات کی عبودیت مستحکم ہو حتیٰ کہ اسے کلیتا ہی دین سے روک دے تو وہ شخص مشرک اور کافر ہے، اور اگر یہ خواہشات اور شہوات اسے بعض واجبات اور فرائض سے روک دیں یا پھر بعض حرام کاموں کو اس کے مزین کر کے پیش کریں جن کا مرتکب دین اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اپنے رب کے ساتھ عبودیت اور بندگی میں نقص ضرور پیدا ہوتا ہے اور یہ نقص اس قدر ہی ہو گا جس قدر اس سے رکے گا۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمیں مکمل طور پر اپنی ہی بندگی کرنے کی توفیق سے نوازے اور اپنے مخلص اور نیک و صالح اور اولیاء اور مقرب بندوں میں سے بنائے، بلا شبہ وہ سننے والا اور دعا کو قبول کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا اور بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔

اس کی مزید تفصیل کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔

مفہیم ینبغی ان تصحیح تالیف: محمد قطب (20-23 ، 174-182) اور العبودیۃ تالیف: شیخ الاسلام ابن تیمیہ .



والله اعلم